



## سوال

(36) قبروں پر لکھنے کا حکم

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا میت کی قبر پر لوہے یا سیمنٹ کی پلیٹ نصب کر کے اس پر قرآنی آیات اور میت کا نام اور اس کی تاریخ وفات وغیرہ لکھنا جائز ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

میت کی قبر پر لکھنا جائز نہیں، نہ قرآنی آیات اور نہ کچھ اور لوہے کی پلیٹ نصب کرنا جائز ہے اور نہ ہتھ و غیرہ کی، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ "نبی ﷺ نے قبر کو چونا گچ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے" اس حدیث کو امام مسلم نے "صحیح" بیان فرمایا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ "آپؐ بے قبر پر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔"

حدیث ما عندی واللہ اعلم بالصواب

## مقالات و فتاویٰ

ص 182

محدث فتویٰ